

معاشرتی آداب

تدریجی معيارات

یہ باب پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ:

- مقتضیات کے موافق آداب اپنائیں۔
- احساس کر سکیں کہ آداب محض یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنایا ہے۔
- اس بات میں تفریق کر سکیں کہ دکھاوے کے طور پر آداب کا مظاہرہ کرنا محض ایک خالی دعویٰ کے مترادف ہے۔
- احساس کر سکیں کہ بس، ریل اور جہاز کے مناسب سفری آداب کی وجہ سے آدنی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔

معاشرے میں بہتر تعلقات کے لیے مقرر کردہ آداب، اصول و ضوابط رویوں اور طور طریقوں کو "سماجی آداب" (Etiquettes) کہا جاتا ہے۔ جن پر سماجی زندگی میں رہن سہن، میل ملاقات، بات چیت، مذہبی، کاروباری، کام کی جگہوں کے ساتھ بس، ٹرن یا جہاز کے سفر کے دوران عمل کرنے بے حد ضروری ہوتا ہے جس سے ماحول خوشنگوار، کام میں سہولت ہوتی ہے اور ایک دوسری کے ساتھ اعتماد، بھروسے اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث انسان معاشرے، قوم اور ملک میں مہذب شمار ہوتا ہے۔

اس باب میں "آداب"، "عبادت گاہوں کے آداب"، "دفاتر اور بینکوں کے آداب"، "بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اور ہوائی اڈہ کے آداب" کے ساتھ "مارکیٹ کے آداب" کے متعلق اساقہ شامل کیے گئے ہیں۔

آداب

حاصلات تعلم

یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہوں گے کہ وہ:

- مناسب آداب کی وضاحت کر سکیں۔
- وضاحت کر سکیں کہ ہر آدمی کو آداب کے دس اصولوں کا علم ہونا ضروری ہے۔
- معاشرتی آداب کی ضرورت بیان کر سکیں۔
- وضاحت کر سکیں کہ اہم مذاہب میں، "سنہری اصول" کا نقطہ نظر کیا ہے۔



دوسروں کے جذبات کا خیال، باہمی عزت و احترام اور ہمدردی معاشرتی آداب اور طور طریقوں کی بنیاد ہیں۔ جو انسان کے رہن سہن، بات چیت اور تعلقات کو بہتر اور خوبصورت بناتے ہیں۔ مناسب آداب اور بہتر طور طریقے معاشرے کی ترقی، خوشحالی، شہرت اور خوبصورتی میں اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ اس لیے روزمرہ کی زندگی میں ان پر عمل پیرا ہونا از جد ضروری ہے۔

معاشرتی آداب کے بنیادی دس اصول ذیل میں دیئے جاتے ہیں جن کو جانا ہر ایک لیے ضروری ہے:

۱- مہربان (Please) اور شکریہ (Thank you) کہنا: جب آپ کسی سے ملتے ہیں، اس کی توجیہ یا لمحپی حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں تو آپ کو اسے مہربان (Please) سے مخاطب ہونا چاہیے یا معاف کرنا (Please excuse me) کہنا چاہیے۔ جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی بات سنے، آپ کی مدد کرے یا کسی کام میں تعاون کرے تو تخلص اور احترام سے آپ کو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے "آپ کا شکریہ" (Thank you) کہنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو شکریہ (you) کہہ رہا ہے تو آپ کو جواب میں خوش آمدید (you are welcome) کہنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کرتے ہوئے "معاف کرنا" (Sorry) کہنا چاہیے۔

۲- اپنا تعارف کروانا: آپ جس سے ملاقات کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ کا مکمل نام آتا ہو۔ بعض اوقات سامنے والا شخص ملنے والے کا نام بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملاقات کے وقت آدمی اپنا مکمل نام بتائے، اور پاٹھ ملائے سامنے مخاطب کا بھی مکمل نام لیا جائے اور اس کے ساتھ صاحب یا

صاحبہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ کسی اجتماعی بیٹھک یا اجلاس کے وقت بھی ہر ایک کو اپنا مکمل نام اور مختصر تعارف کرنا چاہیے۔

۳۔ مناسب انداز سے ہاتھ ملانا: ملاقات کے وقت گرم جوشی سے ہاتھ ملانا چاہیے یا مصافحہ کرنا چاہیے، ملاقاتی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ہاتھ ملاتے وقت حد سے زیادہ زور نہیں دینا چاہیے کہ دوسرا کو تکلیف محسوس ہو۔ اگر کسی کو مصافحہ کرنا تاگوار ہو یا وہ ہاتھ نہ ملائے تو دور ہی سے ہاتھ کا اشارہ کرنا چاہیے۔

۴۔ چلنے کا باو قار انداز اپنانا: چلنے میں مناسب اور باو قار انداز اپنانا چاہیے۔ کسی یا تپائی پر کسی کے سامنے بیٹھتے وقت ٹانگ پر ٹانگ نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی وقت لوگوں کا رش ہو تو قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ موقع اور تقریب کی مناسبت سے کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بزرگوں، عورتوں، بچوں اور معدوروں کو کھڑے ہو کر اپنی سیٹ پیش کرنی چاہیے، کسی کے سامنے چھینکنے، کھانسے اور گزرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی مرض یا وبا کی صورت میں اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپنا چاہیے اور کھانی یا چینک کے وقت اپنے منھ پر کپڑا یا ہاتھ دینا چاہیے۔

۵۔ دوسروں کے لیے دروازہ کھولنے کے بعد پکڑ کر کھڑے رہنا: آنے والے لوگوں کے لیے دروازہ کھولنا چاہیے۔ اس میں عمر اور جنس کی تفریق نہیں رکھنی چاہیے، جب کوئی کسی بزرگ، ضعیف، کمزور یا وزن اٹھانے والے شخص کو آتا دیکھے تو اس کے لیے دروازے میں سے گزرنے میں مدد کرے۔ یہ عمل اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا ہو تو اس کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔

۶۔ وقت کی پابندی کرنا: اپنے اور دوسروں کے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرنا چاہیے، اگر آپ سے کسی کی ملاقات کا وقت مقرر ہو تو مقررہ جگہ پر بروقت پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری یا تاخیر ہو جائے تو بروقت اس کی اطلاع متعلقہ شخص تک پہنچائی جائے۔ کسی بھی تقریب میں وقت سے بہت پہلے اور نہ ہی اتنی تاخیر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو انتظار کی رحمت اٹھانی پڑے۔

۷۔ مخاطب کی بات کو احترام اور توجہ سے سننا: کسی سے بات کرتے وقت پہلے اس کی بات توجہ سے سننا چاہیے اور پھر ادب و احترام کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ گفتگو درمیانہ اور نرم لمحے میں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بات کو درمیان سے نہ کاٹنا چاہیے۔ اگر آپ اس کی بات سے متفق نہیں ہیں تو اپنے آپ پر ضبط رکھتے ہوئے نرم اور با ادب انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ غیر ضروری باتوں، گالی گلوچ، غیبت اور دوسروں پر طنز کرنے سے بچنا چاہیے۔

۸۔ موبائل فون کے استعمال میں آداب کا خیال رکھنا: کام کے دوران دفتر، کسی تقریب یا قطار میں ہوتے وقت پنا موبائل فون سائیلینٹ مود (Silent mode) پر یا بند رکھنا چاہیے۔ عام حالات میں رنگ ٹیون (Ringtune) دھیسے اور اچھی آواز

والی منتخب کرنی چاہیے۔ ضروری کال کے وقت ”معاف کیجیے“ (Sorry) کہہ کر کسی ایک طرف ہو کر آہستہ آواز میں بات کرنی چاہیے۔

۹۔ **تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنا:** کسی بھی جگہ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا نظر آئے تو فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے۔ روڑ حادثات میں زخمی لوگوں کی ہر طرح امداد کرنی چاہیے۔ آگ لگنے یا عمارت گرنے کی صورت میں آگ بھانے اور لوگوں کو باہر نکالنے جیسے کاموں میں بھرپور حصہ لے کر انسانیت کی خدمت کی جائے۔

۱۰۔ **ہر جگہ صفائی کا خاص خیال رکھنا:** اپنے گھر، اسکول، دفتر، دعوت و تقریبات میں یا سیر و تفریح کے دوران کھانے پینے اور استعمال کے بعد نجح جانے والی چیزوں، مثلاً: کچرہ، پلاسٹک شاپر اور ریپرز وغیرہ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے۔ کائنات یا میں کا سامان الگ الگ ٹوکریوں میں پھینکنا چاہیے۔

معاشرتی آداب کی اہمیت: اس دنیا کو بہتر انداز میں قابل رہائش بنانے کے لیے معاشرتی آداب کی بے حد اہمیت ہے۔ جن پر عمل پیرا ہونے سے ہر ایک کی شخصیت میں خوبصورتی، وقار اور عزت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نیک نامی چار سو بڑھ جاتی ہے۔ معاملات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، دفاتر اور اداروں کے ملازم میں جذبے، اطمینان اور سکون سے کام کرتے ہیں۔ جس سے نہ صرف ان کی کارکردگی اور وہاں کا ماحول بہتر ہوتا ہے بلکہ ملازمین، مالکان اور صارفین کے درمیان باہمی عزت و احترام کا رشتہ استوار ہوتا ہے اور وہ پیدا اوری جگہوں پر جاتے ہیں، معاشرتی بد نظمی اور جگہوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی اور در گزر کرنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ شکایت، حسد، کینہ، بعض اور غنیمت جیسی منفی عادات و صفات میں کمی واقع ہوتی ہے جس سے ایک پر سکون اور اطمینان بخش ماحول تشکیل پاتا ہے۔

سنہری اصول (Golden Rule): تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات کے مطابق معاشرتی آداب میں سنہری اصول (Golden Rule) کا مطلب یہ ہے کہ: آپ دوسروں سے وہی سلوک کریں جس کی آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ لوگوں کے احترام، ان کے جذبات کے خیال رکھنے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہونے کا دوسرا نام معاشرتی آداب اور بہتر معاملات ہے۔ جن کی معاشرے میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس پر عمل کرنے سے ایک خوشحال معاشرہ وجود پائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے: ”عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے۔“

اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ

اس سبق سے معلوم ہوا کہ دوسرے لوگوں کے جذبات کا خیال، باہمی عزت و احترام اور ہمدردی معاشرتی آداب کی بنیاد ہیں۔ جو انسان کے رہن سہن، بات چیت اور تعلقات کو بہتر اور خوبصورت بناتے ہیں، اچھے آداب اور بہتر طور طریقے

معاشرے کی ترقی، خوشحالی، شہرت اور خوبصورتی میں اضافہ کا سبب ہوتے ہیں۔ تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات کے مطابق معاشرتی آداب میں سنہری اصول (Golden Rule) کا مطلب یہ ہے کہ: "آپ دوسروں سے وہی سلوک کریں جس کی آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، لوگوں کے احترام، ان کے جذباتے خیال رکھنے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہونے کا دوسرا نام معاشرتی آداب اور بہتر معاملات ہے، جن کی معاشرے میں بڑی اہمیت ہے، ان پر عمل کرنے سے ایک خوشحال معاشرہ وجود پائے گا، اس لیے یاد رکھنا چاہیے: عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے۔

مشق

(الف) مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

1. آداب سے کیا مراد ہے؟
2. موبائل فون کے استعمال کے کیا آداب ہیں؟
3. کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟
4. کسی سے مخاطب ہونے کے کیا آداب ہیں؟
5. آدمی کو چلنے میں کیا انداز اپناتا چاہیے؟

(ب) مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

1. معاشرے میں آداب کیوں ضروری ہیں؟
2. ملاقات کے آداب پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔
3. آپ کی نظر میں وہ کیا آداب یہیں جن کی معلومات ہر ایک کو ہونا لازمی ہے؟

(ج) درست جواب پر "✓" کا نشان لگائیں۔

1. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کہنا چاہیے:

- | | |
|---|---------------------|
| <p>(الف) مہربان</p> <p>(ب) خوش آمدید</p> <p>(ج) معاف کرنا / معافی چاہتا ہوں</p> | <p>صاحب و صاحبہ</p> |
|---|---------------------|

2. اگر کسی کے ساتھ ملاقات طے ہو تو لازمی ہے:

- | | |
|--|------------------------------------|
| <p>(الف) فون کال کرنا</p> <p>(ب) وقت کی پابندی کرنا</p> <p>(ج) اپنا تعارف کروانا</p> | <p>(الف)</p> <p>(ب)</p> <p>(ج)</p> |
|--|------------------------------------|

3. گفتگو کے دوران لازمی ہے:

- | | | | |
|-----|------------------|-------|---------------|
| (ب) | موباکل فون چلانا | (الف) | کتاب پڑھنا |
| (د) | توجہ سے بات سننا | (ج) | دروازہ کھولنا |

4. اپنے ماحول کو رکھنا چاہیے:

- | | | | |
|-----|---------------|-------|---------|
| (ب) | شور والا | (الف) | صف سقرا |
| (د) | ٹھنڈا اور گرم | (ج) | خراب |

5. سنہری اصول ہے کہ دوسروں سے وہی سلوک کریں جس کی آپ دوسروں سے:

- | | | | |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|
| (ب) | بات کرتے ہیں | (الف) | کھلتے ہیں |
| (د) | اپنے لیے چاہتے ہیں | (ج) | ساتھ گھونمنے جاتے ہیں |

سرگرمی ہر لمحے طلبہ و طالبات

طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ وہ روپلے (Role Play) کے ذریعہ کلاس میں دس سنہری اصولوں کا عملی مظاہرہ کریں۔

ہدایات ہر لمحے اسلامتہ کرام

طلبہ و طالبات کو آزادانہ اور با اصول زندگی گزارنے کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور با اصول زندگی میں آداب کی حیثیت سمجھائی جائے۔

ئئے الفاظ اور ان کے معانی

معنی	لفظ	معنی	لفظ
تعزہ، مسخر، رمز کے ساتھ ہاتھ ملانا۔	ظرف	ملاقات کے وقت ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا عمل۔	مصنافہ

عبدات گاہوں کے آداب

حاصلاتِ تعلم

یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہوں گے کہ وہ:

- واضح کر سکیں کہ عبادت گاہیں، مذہب، رنگ و نسل اور ذات کے فرق کے بغیر ہر ایک کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ عبادت گاہوں میں جاتے وقت، مناسب لباس، ننگے پاؤں اور وقت کا خیال رکھا جائے گا۔
- عبادت گاہوں کے تقدس اور نگرانی کے انتظام کا ہر طرح خیال رکھ سکیں۔
- انتشار کے اسباب سے باخبر ہو کر ان سے احتراز کر سکیں۔



ہر معاشرے میں اور ملک میں عبادت گاہوں کو مقدس مقام حاصل ہے۔ جہاں پر لوگ پوچھا اور عبادات سر انجام دیتے ہیں، ہر عبادت گاہ اپنے مانند والوں کے لیے نہایت ادب و احترام اور تقدس کی جگہ ہوتی ہے جس میں عبادت اور پوچھنا کرنے کا ملک کے ہر شہری کو ہے وہ اکثریت سے ہو یا اقلیت میں ہوں، آئینی طور پر حق حاصل ہے۔ ساتھ ہی ہر آدمی کو اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے علاوہ دوسروں کی عبادت گاہوں کے احترام کا بھی پابند کیا گیا ہے۔ تمام مذہبی عبادت گاہوں کے لیے تقدس و احترام کے کچھ اصول و آداب مرتب کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ اس طرح ہیں:

- تمام مذہب اور عقائد کا سب کو ہر طرح احترام کرنا چاہیے۔
- کسی بھی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے اپنا موبائل فون بند کر دینا چاہیے۔
- مناسب لباس اور ننگے پاؤں ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
- سیاح یا دوسرے مذہب کا ہونے کی صورت میں وہاں ہونے والی سرگرمی میں شامل ہو جائے ورنہ ادب و اطمینان سے ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے۔

اہم مذہب کی عبادت گاہیں اور وہاں جانے کے آداب:

مسجد:

- مسجد میں جانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے یا ہاتھ ممحود ہو لینا چاہیے اور جوتے اتار کر اندر جانا چاہیے۔
- بیٹھتے وقت پاؤں قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیں۔
- سر پر ٹوپی یا کپڑا ہونا چاہیے۔
- مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں اور نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے۔
- عورتوں کو اپنا جسم اس طرح ڈھانپنا چاہیے کہ (ہاتھوں اور چہرہ کے علاوہ) کوئی بھی عضو کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔

چرچ:

- عبادت شروع ہونے سے قبل خاموش رہنا چاہیے، لا بیریری کی طرح کی خاموشی ہونی چاہیے۔
- اتوار کے دن والی "پاک شرکت" (ہولی کیوں نیں) میں اول تا آخر شرکت کرنی چاہیے اور عبادت کو مکمل وقت دینا چاہیے۔
- گانے بجانے یا موسیقی پر تالی بجائی جائے نہ ہی کوئی داد دی جائے۔
- دعا کے بعد "آمین" کہنا چاہیے۔

کنیسه:

- یہودی عبادت کے دوران "کپا" ٹوپی پہننے ہیں، وہ پہننی چاہیے۔
- یہودیوں کی عبادت تین چار گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے۔
- اور ان کی طرح شرکت کی جائے یا باہر نکل جانا چاہیے۔
- مقدس کتاب کو فرش پر نہیں رکھنا چاہیے، اگر پڑی ہوئی مل جائے تو اٹھا کر چوم کر مناسب جگہ رکھنی چاہیے۔
- واد واد کی آواز نہ کی جائے۔

بودھ دھرم کا مندر یا مژھی:

- جوتے اور کلاہ اتار دینے چاہئیں۔
- مناسب لباس پہنانا چاہیے، جھانگی یا نیکر کی بجائے پینٹ پہنی چاہیے۔

- گوتم بودھ کی مورتی کو نہیں چھونا چاہیے، عاجزی سے دو تین قدم پیچھے ہٹ کر واپس ہونا چاہیے۔
- راہب، راہبہ یا رکھوال آئے تو کھڑے ہونا چاہیے۔
- کوئی چیز لیتی یاد دیتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔
- داخل ہونے کے لیے دایاں اور نکلنے کے لیے بایاں پاؤں استعمال کرنا چاہیے۔
- پیشوائے سامنے ہاتھ جوڑ کر، تھوڑا جھکتے ہوئے، نمسکار کرنا چاہیے۔

ہندو مندر یا مرٹھی:

- جوتے باہر اتار کر جانا چاہیے۔
- پرساد لینے یا کسی اور کام کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔
- پوچائیں شرکت کرنی چاہیے ورنہ ایک طرف خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔
- اندر جاتے وقت چھت میں لکھی ہوئی گھنٹی بجانی چاہیے۔
- پوچائیں اور بعد میں دیوی دیوتاؤں کے لیے "جے ہو" بولنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔

گردوارا:

- جوتے اتار دینے چاہئیں۔
- سر پر گزری یا کپڑا باندھنا چاہیے۔
- عبادت میں حصہ لو ورنہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، گیتوں کے وقت خاموشی اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
- واہ گرو کھویا خاموش رہنا چاہیے۔ "جے ہو" بولنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔
- کڑاہ پرساد میں شرکت کرنی چاہیے۔

آپ کے گاؤں، شہر یا اردو گرد میں کوئی آپ کے مذہب یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ ہو تو اس کے تقدس اور تحفظ کی بھرپور کوشش کریں اس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی آپ کی عبادت گاہ میں آنا چاہے تو اسے منع نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہ عبادت گاہیں بغیر کسی مذہب، رنگ، ذات اور نسلی امتیاز کے سب کے لیے کھلی ہوئی چاہئیں۔ اگر آپ کا کسی کو دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جانے کا ارادہ ہو تو پہلے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت لینی چاہیے اور آداب کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے علاقے میں کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ زبوں حال ہو تو اس کے اسباب معلوم کرنے چاہئیں تاکہ اسے مزید تباہی سے بچایا جاسکے۔

اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ

اس سبق سے معلوم ہوا کہ کسی بھی معاشرے یا ملک میں مذہبی عبادت گاہوں کو مقدس مقام حاصل ہے۔ جہاں پر لوگ عبادت اور پوجا سر انجام دیتے ہیں۔ ہر عبادت گاہ اپنے ماننے والوں کے لیے نہایت ادب و احترام اور تقدس کی جگہ ہوتی ہے۔ تمام مذہبی عبادت گاہوں کے لیے مقرر کردہ اصول و آداب کا لحاظ رکھنا ہر ایک پر لازمی ہے، سبھی مذاہب اور عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ مقدس جگہوں میں جاتے وقت موبائل فون بند رکھنے، مناسب لباس اور ننگے پاؤں رہنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سیاح یا دوسرے عقیدے کا ہونے کی صورت میں وہاں کی رسوم میں شرکت کرنی چاہیے ورنہ خاموشی اور ادب سے ایک طرف بیٹھ جانا چاہیے۔

آپ کے گاؤں، شہر یا اردو گرد میں آپ کے مذہب یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ ہو تو اس کے تقدس اور تحفظ کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی آپ کی عبادت گاہ میں آنا چاہے تو اسے منع نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ عبادت گاہیں بغیر کسی مذہب، رنگ یا نسل اور نسلی امتیاز کے سب کے لیے کھلی ہوئی چاہئیں۔



(الف) مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

1. مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں؟
2. مندر میں جانے کے آداب بیان کریں؟
3. چرچ میں جانے کے کیا آداب ہیں؟
4. کنیسے کے آداب لکھیں؟
5. بودھ دھرم اور سکھ مت کے مذہبی مقامات میں جانے کے آداب کیا ہیں؟

(ب) مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

1. کسی بھی معاشرے میں مذہبی مقامات کی کیا اہمیت ہے؟
2. عبادت گاہوں کے تقدس کے حوالے سے مقرر کردہ آداب کیا ہیں؟

(ج) درست جواب پر ”✓“ کا نشان لگائیں۔

1. عبادت گاہ میں جانے سے قبل ضروری ہے:

(الف) ناپالس پہننا (ب) موبائل فون بند کرنا

(ج) چیز تقسیم کرنا (و) تعریف کرنا

2. کسی چیز کے دیتے اور لیتے وقت استعمال کرنا چاہیے:

(الف) پلاسٹک شاپر
(ب) نیابر تن

(۶)

3۔ مسجد میں حالت وقت وضو کرنے کے علاوہ ضروری ہے

(الف) جو تھے اتنا نا خیر ات کرنا (س)

(ج) نیئے کٹے رہاو جو تھہنزا بے سار لہذا

۱- کسکو سر بر زنہ کلا نینھیں لالا آ کریں اونتے گلہ مٹے بآنزا اتنا تھا

۱۰۷) ای کوہ مطہر کا کھلے پاؤں کو کہاں کوئی نہیں

۱۰۷۳) میتواند این را در میان افرادی که ممکن است باشد

۵ کسی بھکری اور تگلائی میں بازنگ لے پڑ دیا ہے:

۱۰) نامه شیخ زالزال معاشر امامت سعینا () ح. تابان کلارکز

(۲) کنا گاگ کنا نے کھندا کھندا کھندا کھندا

سکریپٹ طلبہ و طالبات

طلبه و طالبات کو چاہیے کہ وہ قریبی علاقے میں جا کر اپنی مذہبی اور دینگردی مذہبی عبادت گا ہوں کامعاکینہ کریں، وہاں کی انتظامیہ سے معلومات جمع کر کے کلاس میں پیش کریں۔

ہدایات برائے اساتذہ کرام

اہم مذاہب میں عبادت گاہ کے آداب معلوم کرنے کے لیے طلبہ و طالبات کو منصوبی طریقے (Project method) کے مطابق کام دیا جائے۔

معنی الفاظ اور ان کے معانی			
معنی	لفظ	معنی	لفظ
مذہبی رہنماء، پیشووا	راہب	پاکیزگی	نقس
پڑھیز، اجتناب	احتراز	دھرمی طعام	پرساد

دفاتر اور بینکوں کے آداب

حاصلات تعلم

یہ سبق پڑھنے کے طلبہ و طالبات اس قابل ہوں گے کہ وہ:

- جان سکیں کہ مطلوبہ کام کے لیے کون سے دفتر، کس وقت جانا چاہیے۔
- اس بات کی اہمیت سمجھ سکیں کہ کسی دفتر میں متعلقہ ملازم سے ملنے کے لیے کس اعتاد کی ضرورت ہوتی ہے۔
- بینک جاتے وقت مطلوبہ کاؤنٹر تلاش کر کے باری کا انتظار کر سکیں۔
- رقم جمع کروانے اور نکلوانے کا طریقہ جان سکیں۔
- جان سکیں کہ بچت کرنے کے لیے بینک سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔



دفاتر اور بینکوں موجودہ دور میں زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ہر آدمی کو مختلف کام کا ج کے لیے یا پیسوں کی لین دین کے لیے مختلف دفاتر اور بینکوں میں جانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ دفاتر اور بینکوں میں کام کے لیے آنے والوں کی تعداد زیادہ اور کام نمائانے والے ملازمین کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس لیے اس کام کو آسانی اور جلد از جلد مکمل کرنے اور ماحول کو خوش گوار رکھنے کے لیے بعض اصولوں، آداب اور قواعد کی معلومات ہونا اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے۔

درج ذیل دفاتر اور بینکوں میں جانے کے کچھ اصول و آداب

1. جس کام کے لیے دفتر میں جانا ہے اس کی پہلے ہی تیاری کرنا بہت اہم ہے، مطلوبہ کاغذات اور شناختی کارڈ کی اضافی فوٹو اسٹیٹ کا پیاس ایک لفافہ میں رکھنے چاہیے۔ گھر سے لکھتے وقت ایک دفعہ پھر ان کو چیک کرنا چاہیے۔
2. جس سیکشن میں کام ہوا سے تلاش کر کے وہاں پر موجود مکرک یا آفیسر سے ملنا چاہیے۔
3. اگر وہاں زیادہ لوگ جمع ہوں تو قطار بنانی چاہیے اور اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ قطار میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قطار میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی کو دھکا نہ دیں اور آگے ہونے کی کوشش نہ کریں۔ قطار میں مصروفیت کے لیے موبائل فون استعمال کرتے وقت آڈیو یا ویڈیو کی کے لیے ایز فون کا استعمال کرنا چاہیے، فون کی گھنٹی سائیکلٹ پر

رکھنی چاہیے، ضروری بات کرنے کے لیے ایک سائند میں کھڑے ہو کر رابطہ کرنا چاہیے، بات چیت مختصر اور درمیانہ لمحے میں ہونی چاہیے، اسی میل اور مسینج چیک کر سکتے ہیں، دیر کی صورت میں غصہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی قطار میں کسی دوسرے کے لیے جگہ بنانے کا کام کیا جائے۔

4. متعلقہ افسر سے اعتماد سے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، بات دھیان سے سننا چاہیے اور درمیان سے نہیں کا تنی چاہیے،

بازاری یا غیر مانوس زبان کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ قابل نہم ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی انکھوں میں دیکھتے ہوئے مخاطب سے درمیانہ لمحے میں بات کرتے ہوئے متعلقہ کاغذات پیش کرنے چاہیں۔

5. اپنے چہرہ کے تاثرات فطری رکھنے چاہیں، غصہ، جیرت، یا نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ کے اشارے بھی قدرتی اندازوں والے ہونے چاہیں تاکہ کسی کو بر محسوس نہ ہو، سر ہلاکر بھی ثابت رویہ کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔

6. بار بار اپنے بالوں پر ہاتھ نہیں پھیرنے چاہیں، انگلیوں کو چٹانہ نہیں چاہیے اور نہ ہی بال پونٹ پین یا چابیوں سے کاؤٹر اور میز کو بجانا چاہیے۔

7. بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کے لیے محترم، محترمہ، سر، میدم جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔

8. بینک میں جاتے وقت درجن بالا اصولوں کے علاوہ درجن ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے:

- بینک میں چیک تبدیل کروانا ہو یا رقم اپنے کاؤنٹر میں جمع کروانی ہو تو چیک یا رقم جمع کروانے والا فارم گھر سے ہی پُر کر کے جانا چاہیے، یا بینک کے متعلقہ ڈیک پر فارم پُر کر کے کاؤنٹر پر جانا چاہیے اور رش ہونے کی صورت میں قطار قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔

- یو ٹیلیٹی بلز یا چالان کی ادائی ہو، آن لائیں رقم منتقلی کا مسئلہ ہو تو متعلقہ کاؤنٹر پر ہی جانا چاہیے اور رش کی صورت میں باری کا انتظار کرنا چاہیے۔

- بینک میں اپنا موبائل فون سائیلنٹ یا وابریشن موڈ میں رکھنا چاہیے، ضروری کال کی صورت میں مختصر اور درمیانہ آواز میں بات کرنی چاہیے یا بعد میں کال کرنے کا کہنا چاہیے۔

- رقم وصول کرنے کے بعد وہیں پر اس کی گنتی کرنی چاہیے، کمی میشی کی صورت میں کیشیر سے رجوع کرنا چاہیے۔

- کھانسی یا چھینک کی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے یا منہ پھیر دینا چاہیے۔

- کورونا کی وجہ سے ہر وقت اور فلوکی وجہ سے خاص طور پر چہرے پر ماسک اور مجوزہ فاصلے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔

- ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، سامنے والا اگر غیر مناسب رویہ اختیار کرے تو بھی اس کو منکراتے چہرے کے ساتھ شکریہ (Thank you) کہنا چاہیے۔

• اگر آپ کو اپنی رقم کو بچت اکاؤنٹ میں محفوظ کرنے کا ارادہ ہو تو بینک مینیجر سے مل کے بینک کی بچت اسکیوں کی تفصیل معلوم کرنی چاہیے، اطمینان کرنے کے بعد پسندیدہ بچت اکاؤنٹ کا انتخاب کرنا چاہیے اور انتخاب کرنے کے بعد کھاتے کو فعال رکھنے کے لیے دی گئی ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔

طلبہ کے لیے بینکوں میں اپیش بچت اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے۔ بہت سے بینک مالکان اپنے کارندے اسکو لوں میں بھیجتے ہیں، تاکہ وہ شاگردوں کو بچت اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دیں۔ اس موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلبہ کو ایسے بچت اکاؤنٹ کھلوانے چاہیں اور پھر اپنے ماہانہ جیب خرچ سے بچا کر تھوڑی بہت رقم اس میں جمع کروانی چاہیے تاکہ اسے بوقت ضرورت استعمال کیا جاسکے۔

اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ

اس سبق سے معلوم ہوا کہ دفاتر اور بینک ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے مختلف کام کا ج کے لیے یا رقم کی لین دین کے لیے مختلف دفاتر اور بینکوں میں جانا پڑتا ہے، کام کو آسانی اور جلدی سے نمائانے اور ماحول خوش گوار بنا نے کے لیے دفاتر اور بینکوں کے لیے بعض اصول و ضوابط اور آداب مرتب کیے گئے ہیں۔ ہر ایک کے لیے ان کو جانتا اور ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔

جس دفتر میں جانا ہو اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، مطلوبہ کاغذات اور شناختی کارڈ کی اضافی فوٹو اسٹیٹ کا پیال ساتھ رکھنا لازمی ہیں، متعلقہ ملازم سے باعتماد لمحے میں سوچ سمجھ کربات کرنی چاہیے، مخاطب کو دھیان سے سننا چاہیے اس کی بات درمیان سے نہ کالی جائے بڑی عمر والے کو محترم، سریا میڈم جیسے الفاظ سے خطاب کرنا چاہیے، دفاتر اور بینکوں میں جاتے وقت موبائل فون کو سائکلینٹ یا وائرلشن موڈ پر رکھنا چاہیے، اور ضروری کال کی صورت میں درمیانہ انداز سے بات کرنی چاہیے یا بعد میں کال کرنے کا کہنا چاہیے۔



(الف) مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کریں۔

1. دفتر کا مطلب کیا ہے؟
2. بینک کے کیا کیا کام ہیں؟
3. آن لائن منتقلی سے کیا مراد ہے؟

4. طلب کو بینک سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟

5. بل کی ادائیگی کا طریقہ اپنے الفاظ میں بیان کریں؟

(ب) مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

1. کسی دفتر میں جانے سے قبل کیا تیاری کرنی چاہیے؟

2. بینک کی داخلی احتیاطی تدابیر بیان کریں؟

3. بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔

(ج) درست جواب پر ”✓“ کا نشان لگائیں۔

1. بینک کے اہم خدمت ہے:

قرضے فراہم کرنا (ب) بل وصول کرنا (الف)

یہ سب (و) اکاؤنٹ کھولنا، لین دین کرنا (ج)

2. سرکاری ملازمین کا کام ہے:

سرکاری کام (ب) عوام کی خدمت (الف)

قانون کی پیروی (و) اپنا کام (ج)

3. اگر بینک یاد فتر میں رش ہو تو آدمی کو چاہیے کہ:

اپنی باری کا انتظار کرے (ب) جلد بازی کرے (الف)

موباکل فون پر بات کرے (و) کسی کو مدد کا کہے (ج)

4. کام کمکل ہونے پر سامنے والے کو کہنا چاہیے:

شکریہ (ب) الوداع (الف)

سلام (و) مبارک ہو (ج)

5. بینک میں بچت اکاؤنٹ کھلوانے کا مقصد ہوتا ہے:

ملازمت کرنا (ب) بچت کرنا (الف)

خوش ہونا (و) غصہ کرنا (ج)

سرگرمی ہر لمحے طلبہ و طالبات

طلبہ و طالبات کلاس میں ایک خاکہ پیش کریں جس میں بینک کے اکاؤنٹ کھلوانے اور ثانوی و اعلیٰ ثانوی بورڈ کے دفتر میں امتحانی فارم جمع کروانے کو دکھایا جائے۔ طلبہ و طالبات اس خاکے میں اپنا علمی کردار (Role play) کریں۔

ہدایات ہر لمحے اساتذہ کرام

طلبہ و طالبات کو بینکوں اور دفاتر میں ضروری کام کے لیے جانے، وہاں کے عملے سے پیش آنے اور ضروری کاغذات ساتھ لے جانے سے متعلق ہدایات سے آگاہ کریں۔

نئے الفاظ اور ان کے معانی			
معنی	لفظ	معنی	لفظ
تھر تھر اہٹ	واجہ لیشن	بھروسہ	اعتماد
خاموشی	سانکلینٹ	گسس، پانی، بجلی اور ٹیلیفون کے بل	پیشہ بلز
ہنس مکھ، مسکرانہ	خندہ پیشانی	پرہیز	گریز
		ان جان، ناقابل سمجھ	غیر مانوس

بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن اور ہوائی ائرے کے آداب

یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہوں گے کہ وہ:

- آمد و رفت کے مختلف ذرائع کا مقابل کر سکیں اور ان میں نمایاں فرق بیان کر سکیں۔
- سمجھ سکیں کہ پیشگی سیٹ ریزرو کروانا، سفر کو یقینی بنانا تھا۔
- اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر جاتے وقت سفری ٹکٹ یا پلیٹ فارم ٹکٹ ہونا لازمی ہے۔
- جان سکیں کہ فضائی سفر اور ہوائی ائرے پر آنے سے لے کر جہاز میں سوار ہونے تک کے لیے چلنے پھرنے، گفتگو اور شکریہ ادا کرنے وغیرہ کے مناسب آداب اپنانا ضروری ہیں۔
- جان سکیں کہ ان چکیوں پر وقت سے مختلف دی گئی ہدایات پر عمل کرنے بے حد ضروری ہے۔
- سمجھ سکیں کہ ان آداب پر عمل پیرو اہونے سے لوگوں کے ساتھ رابطہ میں سہولت ہوتی ہے۔
- گفتگو کے دوران نرم اور ٹھنڈے لبے کا مظاہرہ کر سکیں۔

سفر انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، خود زندگی بھی ایک سفر ہی ہے۔ ہر آدمی کو کسی کام یا سیر و تفریح کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تاہم آسان اور پُر لاطرف سفر کے لیے پیشگی منصوبہ بندی اور تیاری ضروری ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں سفر رحمت کی بجائے زحمت بھی ہو جاتا ہے، سفر میں کچھ مسائل پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تاہم وہ قابل حل ہوتے ہیں۔ گزشتہ دور میں مختصر فاصلے کے لیے لوگ پیڈل اور طویل سفر کے لیے مختلف جانور مثلاً: اونٹ، گھوڑے یا گدھے پر سواری کرتے تھے، موجودہ دور سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے، جس میں جانوروں کی جگہ موٹر کاروں، بسوں، ریل گاڑیوں اور ہوائی چہازوں پر سفر کیا جاتا ہے، جو جانوروں سے کئی مرتبہ زیادہ تیز رفتار، آرام دہ اور سہولت فراہم کرتے ہیں۔ زمانہ کے ساتھ سفر کے طور طریقے، اصول و آداب بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ جن کو جانا ہر ایک کے لیے لازمی ہے،



بس اسٹینڈ: دیہات سے شہروں تک اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک بس کے ذریعے سفر آسان اور سہولت والا ہوتا ہے، کیوں کہ بسیں قریب سے ہی مل جاتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر بسوں میں سوار ہونے کے لیے بس اسٹینڈ پر انتظار کیا جاتا ہے۔ اس وقت بس اسٹینڈ اور بس میں سوار ہونے کیے لیے درج ذیل آداب پر عمل کرنا ضروری ہے:

- وقت کی پابندی کرنی چاہیے، بس کے مقررہ وقت سے 5-10 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے۔
 - بس میں سوار ہوتے وقت قطار میں کھڑا ہونا چاہیے، دھمک پیل سے احتراز کرنا چاہیے۔ دوڑتے ہوئے سوار ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیوں کہ اس عمل کو غیر مہذب تصور کیا جاتا ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں سوار ہونے کے لیے بچے بھی قطار بناتے ہیں اور با آسانی بس میں سوار ہو جاتے ہیں۔
 - بس میں سوار ہو جانے کے بعد کسی بھی غالی سیٹ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگلے کسی استاپ سے اگر کوئی بزرگ یا معزز شخص سوار ہوا اور اسے جگہ نہ ملتی ہو تو اپنی سیٹ اسے پیش کرنی چاہیے۔
 - اگر ایک شہر سے کسی دور علاقے کے لیے طویل سفر کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے ہی سیٹ بک کرو اُنی چاہیے تاکہ سفر یقینی اور سہل ہو جائے۔
 - دوران سفر اپنا سفری سامان یا بیگ وغیرہ دوسروں کے سامنے یاد ریانی راستہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔
 - مسافروں کے ساتھ تعاون اور خوش اخلاقی کارویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کو زیادہ گفتگو میں مصروف نہیں رکھنا چاہیے۔ درمیانی گفتگو اختیار کرنی چاہیے، سیٹ اگر ڈرائیور کے قریب ہو تو بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔
 - اترنے سے پہلے اپنا سامان چیک کر کے اٹھانا چاہیے۔ کنڈکٹر کے بتانے پر اپنا سامان اتنا کر کر اتنا چاہیے۔



ریلوے اسٹیشن: ذرا بچ آمد و رفت میں ریل گاڑی کا سفر سہولت، آرام دہ اور خوش گواری کے اعتبار سے بے حد اہم سمجھا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس میں مسافروں کو اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ وہ ٹرین میں چہل پہل کر سکتے ہیں اور قدرتی مناظر سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، ریل کے سفر اور ریلوے اسٹیشن پر درج ذیل آداب کا خیال رکھنا چاہیے:

1. ریلوے سفر کے لیے بیٹھی مخصوصہ بندی اور سیٹ کی بگ لازمی ہوتی ہے، سیٹ بک ہونے کی صورت میں وقت، ٹرین، بوگی نمبر اور سیٹ نمبر کی پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے اور سفر یقین بنا جاتا ہے اور آدمی وقت اور تاریخ سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے سفری ٹکٹ ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی کو اتنا نے یا سوار کرنے کے لیے جانا ہو تو پلیٹ فارم ٹکٹ خریدنا ضروری ہوتا ہے۔
 2. ٹرین میں سفر کے دوران سامان رکھنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں گھیرنی چاہیے، اپنا سامان اپنی سیٹ کے قریب یا سامان کی مقتولہ حگ را اگر طرف، کھانا جائیں کو تکلف نہ کروں اسے سامان کا بھج استعمال کر کر جھوٹ دینا

چاہیے مالک بن کہ نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔

3. اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا تیز خوشبودار نہ ہو تو اچھا ہے، سالم شوربے والا ہونا چاہیے، کھانے پینے کے بعد صفائی کر دینی چاہیے۔

4. زیادہ دیر تک واش روم استعمال نہیں کرنا چاہیے اور وہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

5. درمیانی راستہ میں ایک طرف چلنا چاہیے اور گزرنے والے کو حقی الامکان راستہ دینا چاہیے۔

6. کسی کو ٹکٹکی باندھ کر نہیں گھورنا چاہیے۔

7. اگر چھوٹے بچے ساتھ ہوں تو انھیں حد سے زیادہ شرات کرنے اور مسافروں کو نگ کرنے سے روکنا چاہیے۔



ہوائی اڈا: بس اور ریل کے مقابلے میں ہوائی جہاز کا سفر بہت ہی آرام دہ اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ اندر وون ملک یا بیرون ملک دور دراز سفر کے لیے ہوائی سفر تیز ترین ذریعہ ہے۔ ہوائی اڈا اور ہوائی سفر کے دوران درج ذیل آداب پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے:

1. ہوائی سفر کے لیے بھی بیٹھگی منصوبہ بندی، تیاری اور سیٹ کی بیگنگ لازمی امور ہیں۔

2. فلاٹیٹ آنے سے قبل اپنے سامان کی پیکنگ کامل کرتے وقت بیگلوں کی تعداد اور وزن کی حد بندی پہلے ہی ائر لائئن معلوم کرنی چاہیے، سفری ٹکٹ، شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر سفری کاغذات وغیرہ نہایت توجہ اور احتیاط سے چھوٹے بستے یا ہاتھ کے بیگ میں سنبھال کر رکھنے چاہیے۔

3. فلاٹیٹ کے مقررہ وقت سے دوڑھائی گھنٹے پہلے ہوائی اڈے پہنچ جانا چاہیے، سامان ٹراولی پر رکھنا چاہیے اور ”چیک ان“ ہونے پر ائر لائئن کا ڈنٹر پر اپنے سفری کاغذات اور سامان ان کی سپرد کرنا چاہیے، وہاں پر جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب ادب اور احترام سے دیا جائے۔ ضروری اندراج کے بعد آپ کو بورڈنگ پاس، پاسپورٹ، شاپر اور بیگ پر لگانے کے لیے ٹیکیز ملیں گی، وہ بیگلوں پر لگا کر بڑے بیگ ان کے حوالے کر دیں، ہاتھ میں صرف چھوٹا بیگ رکھنا چاہیے۔

4. سیکیورٹی سے گزرتے وقت دی جانے والی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، اپنے جو تے، پرس، گھڑیاں، انگوٹھیاں اور بیٹلوں کے ساتھ دھات کی بندی اشیا مثلاً سکے، ہاتھ کے کنگن، اور دوسری چیزیں چلتے بیٹ کر کھنی چاہیے پھر اسکریننگ گیٹ سے گزر کر اپنا سامان اٹھانا چاہیے۔

5. ان تمام مراحل پر اپنا رویہ ثابت رکھنا چاہیے، فون بند رکھنا چاہیے، گفتگو، چلنے اور شکریہ ادا کرنے کے آداب پر عمل کرتے

ہوئے وہاں کے ملازمین کے لیے آسانی اور سہولت کا خیال کرنا چاہیے۔

6. انتظار گاہ / وینگ لاؤچ میں اپنائیگ کسی دوسرے کی سیٹ پر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اپنے سامنے نیچے یا گود میں رکھنا چاہیے۔ اب آپ چائے، کافی یا پانی خرید کر پی سکتے ہیں، خالی بو تل، کپ یا ٹش وغیرہ ڈسٹ بن میں رکھنا چاہیے، ریسٹ روم / واش روم استعمال کرتے وقت وہاں پر لگا مزدروں یا عورتوں کا نشان دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ فون کال اور گفتگو درمیانہ لجھ میں کرنی چاہیے۔ جب جہاز میں سوار ہونے کا اعلان کیا جائے تو مقررہ گیٹ سے قطار میں گزرنا چاہیے، وہیل چیز والے مسافروں اور بزرگوں کو پہلے جگہ دی جائے اور بعد میں خود جہاز میں داخل ہو جانا چاہیے۔

اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ

معلوم ہوا کہ سفر انسانی زندگی کا حصہ ہے، زندگی بھی ایک سفر ہی ہے، ہر آدمی کو کسی کام کا حج یا سیر و تفریح کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ تاہم پر لطف اور آسان سفر کے لیے پیشگی منصوبہ بندی اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ سفر رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے۔

سواری پر سوار ہونے کے لیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے، سیٹ اور ٹکٹ پہلے ہی بک کروانی چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ سامان سفر با حفاظت رکھنا چاہیے، اور اترتے وقت چیک کر کے اٹھانا چاہیے، بس میں خالی سیٹ پر بیٹھ جانا چاہیے، کوئی معدور یا بزرگ ہو تو اسے اپنی سیٹ پیش کرنی چاہیے، ریل میں سفر کے دوران خوشبودار سالمن نہ لایا جائے، شوربے والی سبزی نہ استعمال کی جائے اور واش روم میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے، ہوائی سفر کے لیے پیشگی منصوبہ بندی اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلاٹیٹ سے دوڑھائی گھنٹے قبل سفری دستاویز، شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر کاغذات وغیرہ نہایت توجہ اور احتیاط سے اپنے ساتھ رکھنے چاہیے۔



(الف) مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

1. گزشتہ زمانے کی سواریوں کا تعارف تحریر کریں؟
2. جدید دور کی تیز رفتار سواریوں کا تعارف تحریر کریں؟
3. بس اسٹینڈ کن لوگوں کے لیے سودمند ہے؟
4. لوگ اکثر ریلوے سفر کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟
5. ہوائی سفر کے لیے کون سی چیزوں کا ہونا لازمی ہے؟

(ب) مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

1. بس اسٹینڈ کا مطلب اور اس کے ادب تحریر کریں۔
2. ریلوے اسٹیشن کے آداب پر نوٹ لکھیں۔
3. ہوائی اڈا کے آداب کو مثالوں سے واضح کریں۔

(ج) درست جواب پر ”✓“ کا نشان لگائیں۔

1. موجودہ دور کو کہا جاتا ہے:

- | | | | |
|-------|--------------------|-----|----------------------------|
| (الف) | ادب و انصاف کا دور | (ب) | سامنہ اور ٹیکنالوجی کا دور |
| (ج) | مذہب کا دور | (د) | سیاست کا دور |

2. سب سے زیادہ آرام دہ اور تیز ترین ذریعہ سفر ہے:

- | | | | |
|-------|-----|-----|------------|
| (الف) | بس | (ب) | ٹرین |
| (ج) | کار | (د) | ہوائی جہاز |

3. سفر پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ:

- | | | | |
|-------|--------------------------|-----|-----------------------|
| (الف) | سیٹ بک کروائی جائے | (ب) | سامان تیار کرنا چاہیے |
| (ج) | وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے | (د) | یہ تمام |

4. سفری سامان ہونا چاہیے:

- | | | | |
|-------|-----------------|-----|-----------------|
| (الف) | ضروری اور مختصر | (ب) | زیادہ |
| (ج) | اچھا اور اعلیٰ | (د) | نہیں ہونا چاہیے |

5. سفر ختم ہونے کا انتظار کم کرنے کے لیے:

- | | | | |
|-------|---------------------------|-----|-------------------|
| (الف) | آرام کرنا چاہیے | (ب) | مطالعہ کرنا چاہیے |
| (ج) | موباکل استعمال کرنا چاہیے | (د) | یہ تمام |

مرگی ہر لمحے طلبہ و طالبات

طلبہ و طالبات میں سے ہر ایک کو بس، ٹرین، یا ہوائی جہاز کا کیا ہوا اپنا سفر کہانی کی صورت میں تحریر کر کے ایک دن کلاس میں تمام ساتھیوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔

ہدایات برائے اساتذہ کرام

طلبه و طالبات کو سمجھایا جائے کہ دوران سفرِ اجنبی لوگوں سے بات چیت یا کھانے کی اشیا لے کر کھانے میں کیا اختیاٹی تدایر کرنی ضروری ہیں تاکہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جانے سے نجیگانہ رکاوٹیں۔

نئے الفاظ اور ان کے معانی

معنی	لفظ	معنی	لفظ
پہلے سے	پیشگی	مزے دار	پُر اطف
سامان چیک کرنے کا آلہ۔	اسکریننگ	کسی کی طرف برا بر دیکھنے جانا۔	گلکنی

مارکیٹ کے آداب

حاصلات تعلم

یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہوں گے کہ وہ:

- مارکیٹ کے مفہوم اور اس کی سرگرمیوں کو جان سکیں۔
- مختلف اشیا کی خرید و فروخت میں مطلوب ذاتی اور پیشہ و رانہ صلاحیتوں اور آداب کو پہنچ سکیں۔



مارکیٹ ایک وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے، جس کے عام طور پر معنی چھوٹا بازار یا منڈی ہے۔ یعنی وہ مستقل جگہ جہاں ضرورت کی اشیا کھانے، پینے کی چیزیں یا جانوروں کی لین دین کی جاتی ہو۔ مارکیٹ میں طلب اور رسد کا اثر قیتوں پر پڑتا ہے۔ یہ جگہ چھت اور بغیر چھت کے ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ جگہ جہاں تجارتی لین دین ہوتا ہے

وہاں خرید اور فروخت کرنے کی کثیر تعداد میں موجود ہوں تو اس کو اس چیز کی مارکیٹ کہا جاتا ہے، جب کہ عملی طور پر مارکیٹ نگ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز یا خدمت کی فروخت یا خریداری کو بڑھانے کے لیے تشویش کرنا اور دیگر کاروباری مرکاز یا صارفین کو پیش آنے والی سرگرمیوں کو سرانجام دینا۔

موجودہ دور میں جس انداز سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اسی اعتبار سے ذرائع آمدن بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ پہپر کرنی کی جگہ ڈھیٹل کرنی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کمپیوٹر اور سارٹ فونز کا استعمال روز بہ روز بڑھ رہا ہے، آج کا انسان گھر میں بیٹھنے بٹھانے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہنرمندی یا سائنسی ایجادات / مشینوں میں جدت لاتے ہوئے، نئی نئی ڈیزائنیوں اور مہارتوں سے روزمرہ کی اشیا بنانا کر انھیں فروخت کر کے کافی رقم کما سکتا ہے، جسے "فری لانسگ" کہا جاتا ہے۔

صوبہ سندھ دستکاری اور ہاتھ کی ہنرمندی کے اعتبار سے قوی اور بین الاقوامی سطح پر بڑی شہرت رکھتا ہے، تاہم ہنرمندوں اور محنت کشیوں کو اپنی مصنوعات کی مارکیٹ نگ کرنے کا سلیقہ نہ ہونے اور اس کے جدید طریقوں سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے مناسب معاوضہ نہیں مل پاتا۔ جس وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے فن میں کوئی جدت نہیں لاتے نہ ہی کوئی نئی چیز بناتے ہیں۔ بہت سے ہنرمند گھر انے اپنا آبائی ہنر ترک کر چکے ہیں جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن کہا جاتا ہے "ماہوسی کفر ہے" ہمارے ملک میں کافی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مارکیٹ کی تقاضوں اور مارکیٹ نگ کے جدید طریقوں کو سمجھنے لگے ہیں اور وہ

اپنے لیے کچھ کمانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دوسراے افراد بھی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اپنے تصورات کو حقیقت کاروپ دے کر مارکیٹ میں لاسکتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ مارکیٹ کے جدید طریقے اور اصول اپنا کر اپنی مصنوعات کی پیداوار بڑھا سکتے ہی۔ مثلاً: کوئی بے روزگار نوجوان لڑکا یا لڑکی مارکیٹ سے کپڑا، ریگزین، سادہ چوڑیاں، چپل، بچوں کے بوٹ اور پرس خرید کر کے ان پر مختلف قسم کے رنگین موتیوں، شیشوں، مصنوعی ہیرول، موتیوں اون، دھاگے، لیس پٹی یا سلامی کا کام کر کے مردانہ یا زنانہ جدید ڈڑا میں کاروپ دے کر اپنے ہاتھ کے ہنر اور کارگری کو نمایاں کرتے ہوئے مارکیٹ میں متعارف کر سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی پذیرائی ہو گی بلکہ مارکیٹ کے اصول استعمال کرتے ہوئے زیادہ کمائی کی جاسکتی ہے۔

علمی سطح پر دنیا کی مشہور کاروباری کمپنیوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ امیروں، دراز، نائکی جیسے مشہور کاروباری اداروں نے اپنا کاروبار بالکل چھوٹی سطح سے شروع کیا تھا اور آج وہ دنیا میں مشہور ہیں۔

نئی مصنوعات یا کسی بھی چیز کو پرموت کرنے (فروخت بڑھانے) کے بنیادی اصول یہ ہیں:

- سب سے پہلے کچھ بڑے صارفین اور وابستہ خریداروں کا سراغ لگایا جائے اور انھیں وہ چیز دے کر ان کی رائے معلوم کی جائے۔
- اپیشل تعارفی پیش کش کرنی چاہیے، ڈسکاؤنٹ / رعایت، یا ایک کے خریدنے پر ایک فری جبکہ سرگر میاں ہونی چاہئیں۔
- اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے داخلی اور خارجی معلومات جمع کی جانی چاہئیں اور وقت بوقت سروے کیا جانا چاہیے۔
- سو شل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے گلوگ، مائی برسن، فیس بک، مارکیٹ پلس ویب سائٹ وغیرہ بنانے چاہئیں اور وقت بوقت انھیں اپڈیٹ رکھنا چاہیے۔
- مختلف ایونٹس میں، خاص بازار، یا نمائش کا انعقاد کرنا چاہیے یا ان میں حصہ لینا چاہیے، وہاں پر لوگوں کو اپنی مصنوعات پیش کرنا چاہیے، مفت یا کم قیمت کو فروغ دینا چاہیے۔
- مارکیٹ کارڈ عمل معلوم کرتے رہنا چاہیے۔
- پرانے صارفین سے رابطے میں رہنا چاہیے، پرانی اشیاء میں جدت لانا چاہیے اور ڈڑا میں کو جدید بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
- بلاگ لکھنا چاہیے۔

اگر آپ کے پاس کسی چیز کو نیا کرنے یا ایجاد کرنے کا تصور ہے تو اس کو حقیقت کاروپ دینے کی آج سے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، کیوں کہ "کسی بھی کام میں کامیابی پہلا قدم اٹھانے سے ہی ملتی ہے۔

اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ

اس سبق سے معلوم ہوا کہ وہ جگہ جہاں کسی چیز کے خریدنے یا صارفین کی کثیر تعداد موجود ہو تو اس کو مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں جس طرح دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح کمائے کے طریقے بھی بڑھ رہے ہیں۔ پہلے کرنی کی جگہ ڈجیٹل کارنی کا استعمال بڑھ رہا ہے، کمپیوٹر اور سمارٹ فون کے ذریعے انسان اپنے گھر میں بیٹھے استعمال کی اشیا کی خرید و فروخت کر کے کافی کام کر سکتا ہے۔ نئے کاروبار کی ابتداء چھوٹے پیمانے کے کام سے کرنی چاہیے، عالمی سطح پر دنیا کی مشہور کاروباری کمپنیوں ایمیزوں، دراز اور نائیکی وغیرہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے چھوٹے پیمانے سے ابتداء کی۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی نئی تکمیل یا ایجاد کا تصور ہے تو اس کو حقیقت میں تبدیل کریں اور دیر نہ کریں بلکہ آج سے ہی اس کام کی ابتداء کریں۔

مشق

(الف) مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

1. طلب اور رسدا کیا مطلب ہے؟
2. مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟
3. موجودہ دور میں بیوپار اور تجارت کے کون سے ذریعے ہیں؟
4. سو شل میڈیا کے ذریعے کاروبار کی کیا اہمیت ہے؟
5. آپ کے خیال میں تعلیم اور ہنر کے لیے مارکیٹ کی کیا اہمیت ہے؟

(ب) مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

1. قدیم دور میں مارکیٹ کی تجارت کا کیا طریقہ تھا؟
2. جدید دور میں مارکیٹ کا مفہوم کن کن اشیا پر مشتمل ہے؟
3. کاروبار کے لیے مارکیٹ کی اہمیت واضح کریں۔

(ج) درست جواب پر “✓” کا نشان لگائیں۔

1. صوبہ سندھ پوری دنیا میں مشہور ہے:

- | | |
|------|------------------------|
| (اف) | کھیل و تفریح کی وجہ سے |
| (ب) | ثقافت کی وجہ سے |
| (ج) | تاریخی وجہ سے |
| (د) | ہاتھ کے ہنر کی وجہ سے |

2. آئندہ دور میں پیپر کرنی کی جگہ پر ہو گی:

- | | | | |
|-----|---------------|------|-------------|
| (ب) | امریکی کرنی | (اف) | سامنی ترقی |
| (د) | پاکستانی کرنی | (ج) | ڈیجیٹل کرنی |

3. کاروبار میں کامیابی کے لیے شروعات کی جائے:

- | | | | |
|-----|-----------------|------|-----------------|
| (ب) | بڑے پیمانے پر | (اف) | چھوٹے پیمانے پر |
| (د) | سامنی پیمانے پر | (ج) | جدید پیمانے پر |

4. جدید مارکیٹنگ کا اہم ذریعہ ہے:

- | | | | |
|-----|----------|------|------------|
| (ب) | لیبارٹری | (اف) | مارکیٹ |
| (د) | کالج | (ج) | سوشل میڈیا |

5. مارکیٹ کا بنیادی مقصد ہے:

- | | | | |
|-----|--------------|------|--------|
| (ب) | تجربہ کرنا | (اف) | پڑھانا |
| (د) | لبن دین کرنا | (ج) | سنگھار |

سرگرمی ہر لمحے طلبہ و طالبات

طلبہ و طالبات کو چاہیے کہ جدید دور کی کاروباری اصطلاحات کو انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم کریں۔ مثلاً: اسٹاک ایکچن، کرنی، طلب و رسدا۔

ہدایات ہر لمحے اساتذہ گرام

جدید دور میں آن لائیں مارکیٹ، پیشہ وارانہ مہارتوں سے نفع اٹھانے کے لیے بین الاقوامی مارکیٹ کے آداب سے طلبہ و طالبات کو واقف کیا جائے تاکہ ذاتی اور قومی سطح پر ان کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے۔

نئے الفاظ اور ان کے معانی

معنی	لفظ	معنی	لفظ
مہیا کرنا، پہنچانا	رسدا	مائل، ضرورت	طلب
دکھانے کا پروگرام	نمایش	پیداواری اشیا	مصنوعات
فروخت کرنے والے	فروخت کننہ	جاگزہ لینا، تخمینہ کرنا	سروے